

برائے فوری اجراء

## برامپٹن میں کنیڈا کے سب سے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہونے والا ہے

برامپٹن، آن (4 جون 2019) - برامپٹن یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی پرجوش محسوس کر رہا ہے کہ یہ موسم گرما 2019 میں گلوبل GT20 (GT20) کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے!

GT20 ایک سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جس میں شمالی امریکہ کے کرکٹ کے چوٹی کے کھلاڑی اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے کرکٹ کے درخشاں ستارے شامل ہو کر اس کی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔

اس ٹورنامنٹ کے پہلے سیزن کا آغاز جون 2018 میں کنگ سٹی، اونٹاریو سے ہوا اور دوسری مرتبہ اس کا انعقاد 25 جولائی تا 11 اگست تک کیا جا رہا ہے۔

GT20 کنیڈا میں منعقد ہونے والا پہلا بڑا T20 کرکٹ ٹورنامنٹ ہے اور اس میں قومی و بین الاقوامی سطح کے شائقین کی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔

برامپٹن نے شہر کے ملکیتی کرکٹ کے 12 بڑے اور 4 چھوٹے سائز کے کرکٹ گراؤنڈز کی تیاری کر رکھی ہے۔ برامپٹن میں کھیلوں کی پسندیدگی کی اہمیت کے اعتراف میں شہر نے 2019 میں کرکٹ کے 3 عدد بڑے پروجیکٹس پر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ کرکٹ کے 2 عدد نئے فل سائز کے کرکٹ فیلڈز 407/ڈکسی کے علاقے اور گور میڈوز کمیونٹی سینٹر میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، ٹیراموٹو پارک کرکٹ فیلڈ میں LED لائٹس لگائی جا رہی ہیں جو پوری گراؤنڈ پر محیط ہوں گی - یہ کنیڈا میں اپنی نوعیت کا پہلا فل سائز کا کرکٹ فیلڈ ہو گا۔

GT20 ٹورنامنٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم [www.gt20.ca](http://www.gt20.ca) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ برامپٹن اس سال GT20 کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے! ایک ایسے صحت افزاء اور محفوظ شہر کے طور پر جس میں کرکٹ کو ایک ہر دل عزیز کھیل سمجھا جاتا ہے، برامپٹن اس مشہور زمانہ تقریب کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ ہم اس موسم گرما میں منعقد کیے جانے والے پرجوش ٹورنامنٹ میں مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے تماشائیوں کو تہہ دل سے شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"GT20 کنیڈا، برامپٹن کو اپنا نیا گھر سمجھ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ جگہ کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے قدرتی طور پر ایک موزوں مقام ہے اور ہم عالمگیر سطح کی کرکٹ اور کرکٹ کی دنیا کے چند روشن ستاروں کو یہاں پر لانے کے لیے مکمل طور پر پُر عزم ہیں۔ سٹی کی بھرپور معاونت اور کرکٹ کنیڈا کی رہنمائی میں ہم یہاں پر باصلاحیت کھلاڑیوں کی آبیاری اور مستقبل میں کنیڈین کرکٹ کے لیے خدمات سر انجام دینے کے لیے عالمگیر سطح کے کرکٹ کے کھلاڑی پیدا کرنے کے لیے بنیادی سطح پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں لانے پر میں سٹی آف برامپٹن اور میئر پیٹرک براؤن کی حمایت کے لیے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ہم سب مل کر ہی برامپٹن کو کرکٹ کی دنیا کے عالمگیر نقشے پر نمایاں مقام دلوا سکتے ہیں۔"

- گرمیت سنگھ، مالک، GT20 کنیڈا

30--

کنیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت

رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ، سٹی آف برامپٹن

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

میڈیا کنٹیکٹ - GT20 کرکٹ ٹورنامنٹ

سواپیل ٹھاکرے

اسسٹنٹ منیجر، GT20

[media@gt20.ca](mailto:media@gt20.ca) | 647.327.0650